

## English

**For maximum quality**  
For maximum quality, re-tighten the screws when necessary.  
Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.  
Wipe dry with a clean cloth.  
This table has been tested for general office and home office use and meets the requirements for safety, durability and stability set forth in the following standards: EN 527.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## Norsk

**For maks kvalitet**  
For maks kvalitet bør skruerne etterstrammes når det er nødvendig.  
Tørk av med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.  
Tørk av med en tørr klut.  
Dette bordet er testet for offentlig bruk og hjemmebruk, og oppfyller kravene til sikkerhet, varighet og stabilitet i denne standarden: EN 527.

## Suomi

**Parhaan mahdollisen laadun varmistaminen**  
Parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi kiristä ruuveja aina kun tarpeen.  
Puhdistetaan miettoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla.  
Kuivataan puhtaalla liinalla.  
Tämä pöytä on testattu ja hyväksytty käyttöön toimistotiloissa ja kotitoimistoissa, ja se täyttää standardissa EN 527 määritellyt turvallisuus-, kestävyys- ja vakausvaatimukset.

## Polski

**Dla zapewnienia maksymalnej jakości**  
Dla zapewnienia maksymalnej jakości, w razie potrzeby ponownie dokręć śruby.  
Wycierać szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.  
Wycierać czystą, suchą szmatką.  
Stół został przetestowany do ogólnego użytku w biurach oraz biurach domowych i spełnia wymogi bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następującej normie: EN 527.

## Eesti

**Maksimaalse kvaliteedi tagamiseks**  
Maksimaalse kvaliteedi tagamiseks pinguta vajadusel kruvisid.  
Puhasta õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.  
Kuivata puhta lapiga.  
Seda lauda on testitud kasutamiseks kontoris ja kodukontoris ning see vastab ohutus-, vastupidavus- ja stabiilsusnõuetele, mis on sätestatud standardis EN 527.

## Deutsch

**Für ein Maximum an Qualität**  
Für ein Maximum an Qualität die Schrauben bei Bedarf erneut anziehen.  
Mit feuchtem Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen.  
Mit trockenem Tuch nachwischen.  
Der Tisch wurde für den allgemeinen Gebrauch im Büro und zu Hause getestet und erfüllt die Anforderungen bezüglich Sicherheit, Haltbarkeit und Stabilität gemäß des folgenden Standards: EN 527.

## Svenska

**För maximal kvalitet**  
För maximal kvalitet, dra åt skruvarna på nytt vid behov.  
Torka med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.  
Eftertorka med torr trasa.  
Det här bordet har testats för generell användning på kontor och hemmakontor och uppfyller kraven för säkerhet, hållbarhet och stabilitet enligt följande standarder: EN 527.

## Latviešu

**Maksimālai kvalitātei**  
Lai nodrošinātu maksimālu kvalitāti, skrūves pēc nepieciešamības pievelk ciešāk.  
Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas līdzekļi samērcētu drānu.  
Noslaucīt ar tīru drānu.  
Šis galds ir pārbaudīts un apstiprināts standarta lietošanai birojā un mājsaimniecībā, un atbilst EN 527 standarta prasībām attiecībā uz drošību, izturību un stabilitāti.

## Français

**Pour une qualité optimale**  
Resserrez les vis quand nécessaire pour une qualité optimale.  
Nettoyer avec un chiffon imbibé d'un détergent doux.  
Terminer en essuyant avec un chiffon sec.  
Cette table a été testée pour un usage professionnel et un usage domestique, et répond aux exigences spécifiques par la norme EN 527 en matière de sécurité, durabilité et stabilité.

## Česky

**Pro maximální kvalitu**  
Pro maximální kvalitu utáhněte v případě potřeby šrouby.  
Otírejte navlhčenou textilíí a jemným čisticím prostředkem.  
Osušte čistou utěrkou.  
Tento stůl byl testován pro běžné použití v kanceláři a domácí pracovně a splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a stabilitu stanovené v následující normě: EN 527.

## Lietuvių

**Kokybė ir patikimumas**  
Prisukite klambčius varžtus, jei tokių atsiranda.  
Valyti šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu.  
Valyti švaria, sausa šluoste.  
Šis stalas buvo išbandytas naudojimui bendrose įstaigose bei namų darbo kambariuose, ir atitinka standarte EN 527 nustatytus saugos, patvarumo, stabilumo reikalavimus.

## Nederlands

**Voor maximale kwaliteit**  
Voor maximale kwaliteit, de schroeven indien nodig opnieuw aandraaien.  
Afnemen met een doekje met wat mild schoonmaakmiddel.  
Nadrogen met een droge doek.  
Deze tafel is getest voor algemeen gebruik op kantoor en in huis en voldoet aan de eisen voor veiligheid, slijtvastheid en stabiliteit volgens de volgende norm: EN 527.

## Español

**Para una calidad óptima**  
Para una calidad óptima, aprieta de nuevo los tornillos cuando sea necesario.  
Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave.  
Secar con un paño seco.  
Esta mesa ha sido probada para uso doméstico y profesional, y cumple los requisitos de seguridad, durabilidad y estabilidad que establecen las siguientes normas: EN 527.

## Portugues

**Para maior qualidade**  
Para maior qualidade, volte a apertar os parafusos sempre que necessário.  
Limpar com um pano embebido em detergente suave.  
Secar com um pano limpo.  
Esta mesa foi testada para uso profissional e doméstico e cumpre os requisitos de segurança, durabilidade e estabilidade estabelecidos na seguinte norma: EN 527.

## Dansk

**For bedste kvalitet**  
Stram skruerne efter behov for at opnå den bedste kvalitet.  
Tørres af med en klud dyppet i vand og tilsat et mildt rengøringsmiddel.  
Tør efter med en ren, tør klud.  
Bordet er testet til almindeligt kontor- og hjemmebrug og opfylder de krav, der stilles til sikkerhed, holdbarhed og stabilitet, i følgende standard: EN 527.

## Italiano

**Per una qualità ottimale**  
Per una qualità ottimale, serra nuovamente le viti quando è necessario.  
Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.  
Asciuga con un panno pulito.  
Questo tavolo è stato testato per un uso generale in ambienti professionali e domestici, ed è conforme ai requisiti di sicurezza, durabilità e stabilità specificati nella norma EN 527.

## Româna

**Pentru calitate optimă**  
Pentru calitate optimă, strânge șuruburile ori de câte ori este necesar.  
Șterge cu o cârpă înmuiată în detergent delicat.  
Șterge cu o cârpă curată.  
Această masă a fost testată pentru uz general, public și casnic, și îndeplinește cerințele de siguranță, rezistență și stabilitate prevăzute în următorul standard: EN 527.

## Íslenska

**Fyrir bestu gæði**  
Hertu skrufurnar eftir þörfum fyrir bestu gæði.  
Þrífðu með rökum klút og mildu hreinsiefni.  
Þurrkaðu með hreinum klút.  
Borðið hefur verið prófað fyrir almenna notkun í atvinnuskyni og uppfyllir kröfur um öryggi, endingu og stöðugleika samkvæmt eftirfarandi staðli: EN 527.

## Magyar

**A maximális minőség érdekében**  
A maximális minőség érdekében szükség szerint rendszerezzen húzd meg a csavarokat.  
Enyhén tisztítószeres vízbe áztatott ronggyal tisztítsd.  
Tiszta ruhával töröld szárazra.  
Ezt az asztalt általában, nem otthoni, irodai használatra és home office használatra tesztelték; biztonság, tartósság és stabilitás szempontjából megfelel az EN 527. szabvány követelményeinek.

## Slovensky

**Maximálna kvalita**  
Maximálnu kvalitu dosiahnete, ak budete pravidelne utáňovat skrutky.  
Čistite vlhkou handrou a jemným čistiacim prostriedkom.  
Utrite do sucha čistou textíliou.  
Stôl bol testovaný na všeobecné kancelárske a domáce použitie a splňa požiadavky na bezpečnosť, odolnosť a stabilitu stanovené v nasledujúcich normách: EN 527.

